



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون، پانچویں راؤنڈ کے میچز شروع

کراچی۔ 26، نومبر، 2020

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ناردرن نے ٹاس جیت کر خیبر پختونخواہ کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے روز کھیل کے اختتام پر 87 اوورز کے کھیل میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 371 رنز بنا لیے۔ فیضان ریاض نے پہلے روز شاندار بیٹنگ کی وہ 124 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ انہوں نے اب تک 162 گیندوں کا سامنا کیا ہے ان کی اننگز میں 16 چوکے اور ایک چھکا شامل ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے ناٹ آؤٹ بیٹسمین آصف علی ہیں جو ایک رن پر بیٹنگ کر رہے ہیں۔ محمد نواز نے بھی پہلے روز سنچری اسکور کی، انہوں نے 146 گیندوں پر 121 رنز 15 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے بنائے۔ ناصر نواز 68 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ خیبر پختونخواہ کی جانب سے ساجد خان نے 98 رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ارشد اقبال، خالد عثمان اور زویب خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں سدرن پنجاب اور سنٹرل پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ سدرن پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے روز کھیل کے اختتام پر 88-2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 272 رنز بنا لیے۔ سلمان علی آغا 62 اور محمد عمران تین رنز پر ناٹ آؤٹ بیٹسمین ہیں۔ عمر صدیق 6 رنز کے فرق سے اپنی سنچری مکمل نہ کر سکے۔ انہیں 94 رنز پر وقاص مقصود نے آؤٹ کیا۔ زین عباس 69 رنز کے ساتھ نمایاں رہے جبکہ سیف بدر نے 22 رنز بنائے۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے وقاص مقصود اور احمد صافی نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں بلوچستان اور سندھ کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ بلوچستان نے پہلے روز کھیل کے اختتام پر اکبر الرحمان کے 155 ناٹ آؤٹ رنز کی بدولت 3 وکٹوں کے نقصان پر 333 رنز بنا لیے ہیں، اکبر الرحمان کی اننگز میں 12 چوکے اور 4 چھکے شامل ہیں۔ پہلے روز 87 اوورز کا کھیل ہوا۔ ان کے

ساتھ دوسرے ناٹ آؤٹ بیٹسمین ایاز تصور ہیں جنہوں نے 67 رنز بنائے ہیں۔ علی وقاص 46 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ عظیم گھمن نے 22 اور عمران فرحت نے 33 رنز بنائے۔ شاہنواز دھانی اور ابرار احمد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4